

E-TICKETING PERFORMA FOR SENIOR CITIZEN / DISABLED PERSON

PHOTO

ای ٹکٹنگ فارم برائے ضعیف العمر شہری / معذور افراد

Name of Applicant : درخواست گزار کا نام

Father/Husband Name : والد/شوہر کا نام

Applicant's Mobile/Phone No. : درخواست گزار موبائل / فون نمبر

CNIC No. : شناختی کارڈ نمبر

Present Address: موجودہ پتہ

Permanent Address: مستقل پتہ

Emergency Contact No. & Name of any family member : فیملی ممبر کا ایمرجنسی رابطہ نمبر اور نام

Note: 1. The Senior Citizen and Disabled applicants are requested to bring their Original CNIC during travelling, otherwise they will be treated as without Ticket. In case of mis-use of CNIC / Disabled logo by Senior Citizen / disabled person their ID No / CNIC by IT will be blocked for any further E-ticketing facility.

نوٹ: 1. معزز ضعیف العمر شہری اور معذور افراد سے درخواست ہے کہ دوران سفر اپنے اصل شناختی کارڈ اپنے ساتھ رکھیں، ورنہ بغیر ٹکٹ تصور کیے جائیں گے۔ شناختی کارڈ کا غلط استعمال کرنے پر E-Ticketing کی سہولت اُس ضعیف العمر شہری اور معذور فرد کے لیے ختم کر دی جائے گی۔

2. Attached two CNIC copies and two photographs during submission of form.

2. فارم جمع کرواتے وقت فارم کی دو کاپیاں اور شناختی کارڈ اور تصویر کی بھی دو، دو کاپیاں لف کریں۔

3: Disability logo must be shown on CNIC copy of disabled applicant, otherwise he will be treated as without Ticket

3. معذور فرد کے شناختی کارڈ پر معذوری کا نشان ہونا ضروری ہے، ورنہ بغیر ٹکٹ تصور کیے جائیں گے۔

درخواست گزار کے دستخط

دستخط ہیڈ کمرشل

نشان انگوٹھا

COUNTERSIGNED AND STAMP

Divisional Commercial Officer

12/12/2020